

برائے فوری اجراء

فوربز نے سٹی آف برامپٹن کو 2022 کے بہترین آجروں میں سے ایک قرار دیا ہے

برامپٹن، آن (26 جنوری 2022) – سٹی آف برامپٹن کو فوربز (Forbes) کی جانب سے کینیڈا کے 2022 کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس سال، سٹی کو 300 شہروں میں سے 98 ویں نمبر پر رکھا گیا ہے اور یہ لگاتار چوتھا سال ہے کہ شہر اس فہرست کی درجہ بندی میں شامل ہو رہا ہے۔

فوربز نے سالانہ فہرست مرتب کرنے کے لیے مارکیٹ ریسرچ کمپنی سٹیٹسٹا (Statista) کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جس میں 500 سے زائد ملازمین والی کمپنیوں میں کام کرنے والے کینیڈا کے 10,000 سے زیادہ باشندوں کا سروے کیا گیا ہے۔ شرکاء نے اپنی تنظیموں کو دوستوں اور خاندان والوں کو ان کی سفارش کرنے کی خواہش کی بنیاد پر درجہ دیا ہے۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ اپنی تنظیموں کے علاوہ دیگر تنظیموں کو بھی نامزد کریں گے۔

سٹی آف برامپٹن، شہ سرخیاں

- جنوری 2022 میں، سٹی آف برامپٹن نے ایک فلیکسیبل ورک پروگرام شروع کیا تھا جس میں ملازمین کہاں اور کب کام کرتے ہیں کے حوالے سے لچک کی حمایت شامل تھی؛ اور اس میں ریموٹ ورک، لچکدار اوقات، جاب شیئرنگ اور کام کے ہفتوں کو مختصر کرنا بھی شامل تھا۔ یہ پروگرام ورک پلیس ماڈرنائزیشن کے اقدام کا ایک حصہ ہے، جس میں کام کے لچکدار اختیارات اور تعاون کی حمایت کے لیے جائے کار کی منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔
- 2020 میں، سٹی نے کمیونٹی میں پائی جانے والی سیاہ فام نسل پرستی کے خلاف بامعنی کارروائی کرنے کے لیے اپنا اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریسرچ یونٹ بھی قائم کیا تھا۔ 2021 میں، یونٹ نے پانچ سالہ ایکشن پلان کی ترقی میں معاونت کے حصول کے لیے کمیونٹی کے ساتھ بڑے پیمانے پر مشاورت، کانفرنسیں اور تقریبات منعقد کیں۔ سٹی نے اپنا ایک بلیک ایمپلائی انگیجمنٹ نیٹ ورک بھی تیار کیا اور پرفارمنگ آرٹس میں بلیک اینڈ انٹیجینس یوتھ انٹرنشپ اینڈ کوآپریٹو پروگرام بھی شروع کیا، جو کینیڈا میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔
- دسمبر، 2020 میں سٹی نے اپنے نئے ملازمین اور شہریوں کی خدمت کے لیے ایک ایکوٹی افس کا اعلان کیا تھا۔ ایکوٹی افس نسل، شجرہ نصب، آبائی جگہ، رنگ، نسلی پس منظر، معذوری، شہریت، قوم، جنس، جنسی رجحان، جنسی شناخت، ہم جنس شراکت داری، عمر، ازدواجی حیثیت، خاندانی حیثیت، تارک وطن کی حیثیت، عوامی معاونت کی وصولی، سیاسی وابستگی، مذہبی وابستگی، خواندگی کے درجے، زبان اور/یا سماجی و معاشی حیثیت سے قطع نظر جائے کار اور کمیونٹی میں موجود رکاوٹوں کی شناخت کرنے اور انہیں ختم کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔

اقتباسات

“ہمیں مسلسل چوتھے سال بھی فوربز کی جانب سے کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے پر ناقابل یقین حد تک فخر ہے۔ برامپٹن ایک اچھی طرح چلایا جانے والا شہر ہے اور ہمارے ملازمین ہمارے رہائشیوں کے لیے ایک ایسی کمیونٹی بنانے کے لیے وقف ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے عملے کا ہمارے لیے پسند کا اجر ہونے کا یہ اعتراف ہماری کمیونٹی کے لیے ان کے جذبے اور ہمارے رہائشیوں کے لیے بہترین نتائج حاصل کرنے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔”

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

“برامپٹن مختلف کمیونٹیوں پر مشتمل ایک حسین گلدستے کی مانند ہے اور سٹی میں، ہم ایک ایسی متنوع افرادی قوت بنانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ہماری پوری کمیونٹی کی عکاسی کرے۔ ہمارے ایکوٹی افس جیسے اقدامات کے ذریعے، ہم سٹی کے عملے کے لیے ہم آہنگی کے ایک ماحول اور تمام افراد کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم بہترین امیدواروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ ہم فوربز کی جانب سے دوبارہ کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے کا جشن مناتے ہیں۔”

- برکرات سنگھ، چیئر، کارپوریٹ سروسز؛ سٹی کونسلر، وارڈز 9 اور 10، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن جائے کار پر رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ یہ تمام لوگوں کے لیے موزوں اور منصفانہ ہو سکے۔ ہمارے ملازمین ہماری متنوع کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے پرجوش ہیں اور ہم ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے وقف ہیں، جبکہ ہم کام کی جگہ پر ایک جامع اور پرکشش ماحول تشکیل دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمیں مسلسل چوتھے سال بھی فوربز کی جانب سے کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے پر فخر ہے۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن میں، ہم ایک ایسی جامع ثقافت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں جو ہماری کونسل کی مدت کی ترجیحات کو عملی جامہ پہنانے میں مشترکہ عزم کی بنیاد پر ہمارے لوگوں کو ہم سے وابستہ رکھے، انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور ان کی کامیابیوں کا جشن منایا جائے۔ یہ ہماری 6,000 سے زیادہ ملازمین پر مشتمل ٹیم ہی ہے جو شہر کو کام کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ بناتی ہے۔ فوربز اور ہمارے ملازمین - ماضی اور حال - میں مسلسل چوتھے سال کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca